

Attempt questions

$^1 \text{Factorize } 1 + 2ab - a^2 - b^2$

تجزی کریں۔ 1

$^2 \text{Factorize } x^2 - 11x - 42$

تجزی کریں۔ 2

$^3 \text{Factorize } x^3 + 48x - 12x^2 - 64$

تجزی کریں۔ 3

$^4 \text{Factorize } 5x^2 - 16x - 21$

تجزی کریں۔ 4

5 Use the remainder theorem to find the remainder when $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ is divided by $(x - 2)$

مسئلہ باقی کی مدد سے باقی معلوم کیجئے جب $3x^3 - 10x^2 + 13x - 6$ پر تقسیم کیا جائے۔ 5

$^6 \text{Factorize } 3x^3y(x - 3y) - 7x^2y^2(x - 3y)$

تجزی کریں۔ 6

$^7 \text{Factorize } 2abc - 4abx + 2abd$

تجزی کریں۔ 7

$^8 \text{Factorize } 2x^2 - 8x - 42$

تجزی کریں۔ 8

Attempt questions

1 Determine the value of k if

k کی کس قیمت کے لئے کشیر قمیوں 1

$p(x) = kx^3 + 4x^2 + 3x - 4$ and

$q(x) = x^3 - 4x + k$ اور $p(x) = kx^3 + 4x^2 + 3x - 4$

q(x) = $x^3 - 4x + k$ leaves the same remainder when divided by $(x - 3)$.

کو $(x - 3)$ پر تقسیم کرنے سے میساں باقی نہیں۔

$^2 \text{Factorize } 3x^4 + 12y^4$

تجزی کریں۔ 2